

# Psa

## Chapter 111

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	הַלְלוּ	וְהַ	אֹרְהָ	יְהוָה	בְּכָל־	לִבְב־	בְּסוֹד	יְשָׁרִים	וְעֵדָה:
	حمد-کرو	یاہ-کی	شکر-کروں-گا	یہوواہ-کا	سارے	دل-سے	مجلس-میں	سیدھوں-کی	اور-جماعت-میں
	<a href="#">H3050</a>	<a href="#">H3034</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H5475</a>	<a href="#">H3477</a>	<a href="#">H5712</a>	

گا۔ کروں شکر کا رب میں جماعت اور مجلس کی داروں دیانت سے دل پورے میں ہو! حمد کی رب

2	גְּדֹלִים	מַעֲשָׂיו	יְהוָה	יְרוּשָׁיִם	לְכָל־	חַפְצֵיהֶם:
	بڑے-ہیں	کام	یہوواہ-کے	تلاش-کیے-جانے-والے	سب	جو-خوشی-رکھتے-ہیں
	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1875</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2656</a>	

ہیں۔ کرتے مطالعہ خوب کا اُن وہ ہیں بوتے اندوز لطف سے اُن جو ہیں۔ عظیم کام کے رب

3	הוֹדֵר־	וְהָרַר	פְּעָלָיו	אֲסִי-	אֲסִי-	עֲמֻדָת	לְעֵד:
	جلال	اور-شوکت-ہے	اُس-کا-کام	اور-اُس-کی	راستبازی	قائم-ہے	بمیشہ
	<a href="#">H1935</a>	<a href="#">H1926</a>	<a href="#">H6467</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H6666</a>	<a href="#">H5703</a>	

ہے۔ رہتی قائم تک ابد راستی کی اُس ہے، جلالی اور شاندار کام کا اُس

4	זָכַר	עֲשָׂה	לְנִפְלְאוֹתָיו	חַנּוּן	וְרַחֵם	יְהוָה:
	یادگار	بنائی	اپنے-عجائبات-کی	مہربان	اور-رحمدل-ہے	یہوواہ
	<a href="#">H2143</a>	<a href="#">H6381</a>	<a href="#">H2587</a>	<a href="#">H7349</a>	<a href="#">H3068</a>	

ہے۔ رحیم اور مہربان رب ہے۔ کراتا یاد معجزے اپنے وہ

5	טָרַף	נָתַן	לְיָרְאָיו	יִזְכֵּר	לְעוֹלָם	בְּרִיתוֹ:
	خوراک	دی	اپنے-ڈرنے-والوں-کو	یاد-رکھے-گا	بمیشہ	اپنا-عہد
	<a href="#">H2964</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3373</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H1285</a>

گا۔ رکھے خیال کا عہد اپنے تک ہمیشہ وہ ہے۔ کی مہیا خوراک نے اُس اُنہیں ہیں مانتے خوف کا اُس جو

6	כַּח	מַעֲשָׂיו	הַנִּיד	לְעַמּוֹ	לָתַת	לָהֶם	נַחֲלַת	גּוֹיִם:
	طاقت	اپنے-کاموں-کی	ظاہر-کی	اپنی-قوم-کو	دینے-کے-لیے	اُنہیں	میراث	قوموں-کی
	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5142</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5159</a>		

گا۔ کروں عطا میراث کی غیر قوموں تمہیں میں کہا، کے کر اعلان کا کاموں زبردست اپنے کو قوم اپنی نے اُس

7	מַעֲשָׂיו	יָדָיו	אֶמְתָּ	וּמִשְׁפָּט	נְאֻמֵּי	כָל־	פְּקוּדָיו:
	کام	اُس-کے-ہاتھوں-کے	سچائی	اور-عدالت-ہیں	قابل-بہروسا-ہیں	سب	اُس-کے-احکام
	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H0539</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6490</a>

ہیں۔ اعتماد قابل احکام تمام کے اُس ہیں۔ راست اور سچے وہ کریں ہاتھ کے اُس کام بھی جو

8	סְמוּכִים	לְעֵד	לְעוֹלָם	עֲשׂוּם	בְּאֵמֶת	וְיִשָּׁר:
	قائم-ہیں	بمیشہ	بمیشہ-کے-لیے	کیے-گئے-ہیں	سچائی-سے	اور-راستی-سے
	<a href="#">H5564</a>	<a href="#">H5703</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H3477</a>	

ہے۔ کرنا عمل سے داری دیانت اور سچائی پر اُن اور ہیں، قائم تک ابد سے ازل وہ

9	אֲפָדוֹת	תְּשַׁלַּח	לְעַמּוֹ	צְנִידָה	לְעוֹלָם	בְּרִיתוֹ	קָדוֹשׁ	וְנִזְרָא	שָׁמוֹ:
	فدیہ	بھیجا	اپنی-قوم-کو	حکم-دیا	بمیشہ-کے-لیے	اپنا-عہد	پاک-ہے	اور-مہیب-ہے	اُس-کا-نام
	<a href="#">H6304</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H6918</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H8034</a>	

بے پُرجلال اور قدوس نام کا اُس رہے۔ قائم تک ابد عہد ساتھ کے قوم میرا فرمایا، نے اُس ہے۔ چھڑایا اُسے کر بھیج فدیہ کا قوم اپنی نے اُس

10	יְאֲשִׁית	וּחֶכְמָה	יְרֵאת	יְהוָה	שָׁכַל	טוֹב	לְכָל-	עֲשִׂיהֶם	אֶהְלֵתוּ	עֲנִידת
	شروع	دانائی-کی	ڈر	یہوواہ-کا	سمجھ	اچھی-ہے	سب-کے-لیے	کرنے-والوں-کے	اُس-کی-حمد	قائم-ہے
	<a href="#">H7225</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H3374</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7922</a>		<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H8416</a>	<a href="#">H5975</a>

لְעַד:

بمیشہ

[H5703](#)

تک ہمیشہ حمد کی اُس گی۔ ہو حاصل سمجھ اچھی اُسے کرے عمل پر احکام کے اُس بھی جو مانیں۔ خوف کا رب ہم کہ ہے ہوتی شروع سے اِس حکمت گی۔ رہے قائم